

## باکس 1: اسٹیٹ بینک کا نظامیاتی خطرے کا سروے - ساتویں لہر (جنوری 2021ء)

(وضاحت: یہ نتائج سروے کے جواب دہندگان کی رائے کو ظاہر کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے نقطہ نظر کی عکاسی نہیں کرتے)

4- مالی اور بینکاری نظام کے استحکام پر اعتماد گذشتہ لہروں کے مقابلے میں بہتر ہوا ہے۔ اس سے کووڈ 19 کے حوالے سے حکومت اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے بروقت پالیسی اقدامات کے نتیجے میں معاشی اور مالی خطرات سے مؤثر طور پر نمٹنے کا اظہار ہوتا ہے (چارٹ د)۔

5- یہ امر حوصلہ افزا ہے کہ وبا کے تناظر میں جواب دہندگان کے نقطہ ہائے نظر اسٹیٹ بینک کے مجموعی پالیسی اقدامات کی اثر انگیزی کے بارے میں بے حد مثبت ہیں (چارٹ ط 1 اور ط 2)۔

6- مالی شعبے پر کووڈ 19 کے اثرات کے بارے میں سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرضوں کی نمو پر بھاری منفی اثرات دیکھے جاسکتے ہیں جس کے بعد منافع آوری اور کاروباری آپریشنز کا نمبر آتا ہے (چارٹ ہ)۔

7- جواب دہندگان کے خیال میں مالی استحکام پر کووڈ 19 کا اثر فوری مدت سے لے کر وسط مدت کے درمیان وبا کی شدت کم ہونے کے ساتھ بتدریج زائل ہو جائے گا (چارٹ ی)۔ مزید یہ کہ پچھلی لہر (چھٹی لہر) کے مقابلے میں جواب دہندگان کے تاثرات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں۔

### نتائج

اس مشق کے نتائج کے خلاصے کو چارٹ 4.15 میں دیا گیا ہے جو 2020ء کی ہر سہ ماہی کے لیے آخر سہ ماہی کے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ یہ نتائج مجموعی سطح کے تجزیے کے نتائج سے ہم آہنگ ہیں۔ اس کے تحت شعبہ بینکاری کے انفیکشن تناسب میں خاصا اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے ادائیگی قرض کی صلاحیت کے لیے منفی مضمرات ہو سکتے ہیں۔ تاہم سرمائے کی خاصی بفرز کے پیش نظر نظام مجموعی بنیادوں پر اب بھی اس دھچکے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ بڑے بگاڑ کے باوجود اس کی شرح کفایت سرمایہ اس کی کم از کم مقامی اور عالمی سطح سے بلند رہے گی جو بالترتیب 11.5 فیصد اور 10.5 فیصد بنتی ہے۔

اسٹیٹ بینک نے اپنا ششماہی نظامیاتی خطرے کا سروے (SRS) جنوری 2021ء میں مکمل کیا تا کہ مارکیٹ کے شرکاء کے خطرے کے تاثرات معلوم ہو سکیں اور مالی نظام کے استحکام پر ان کے اعتماد کو جانچا جاسکے۔ اس سروے کی پچھلی لہروں کی طرح بنیادی سوالات وہی رہے۔ تاہم کووڈ وبا کے استحکام کے حوالے سے مضمرات کے سلسلے میں شرکاء کے تاثرات کا اندازہ لگانے کے لیے سروے کے سوالنامے کے ساتھ پچھلی لہر (چھٹی لہر) کے بعد کچھ اور سوالات بھی شامل کیے گئے ہیں۔

وباسے ابھرنے والے خطرات کے علاوہ سروے میں حال اور (اگلے چھ ماہ کے دوران) مستقبل کے بارے میں خطرے کے پانچ اہم زمروں کے حوالے سے شرکاء کے تاثرات معلوم کیے گئے یعنی عالمی، کئی معاشی، مالی منڈیاں، ادارہ جاتی اور عمومی۔ موجودہ لہر کے جواب دہندگان میں متنوع متعلقہ فریق شامل تھے۔ 7 موجودہ لہر میں 115 شرکاء نے حصہ لیا اور جوابات کی شرح 53 فیصد تھی۔

### نتائج کا خلاصہ:

1- فی الوقت مجموعی سطح پر جواب دہندگان ”ملکی کئی معاشی خطرات“ کے زمرے کو اہم ترین کا درجہ دیتے ہیں جس کے بعد ”عالمی خطرات“ کا نمبر آتا ہے۔ مالی نظام کو درپیش خطرات کی اہمیت کے بارے میں ان کا تاثرات خارجی ہے اور اگلے چھ ماہ تک تبدیل نہیں ہوتا (چارٹ الف اور ب)۔


2- فی الوقت مخصوص خطرات کے حوالے سے بلند ترین درجے کے خطرات ”گھریلو آمدنی میں بگاڑ“، ”ملکی نمو میں سست روی“، اور ”اجناس کی قیمتوں میں تغیر“ ہیں۔ اگلے چھ ماہ کے لیے جواب دہندگان نے خطرے کے منبع کو ”ملکی مہنگائی میں اضافہ“، ”اجناس کی قیمتوں میں تغیر“ اور ”سائبر سیکورٹی خطرات“ سے تبدیل کر دیا۔ مستقبل قریب میں بظاہر جواب دہندگان کو امید ہے کہ ملکی معیشت میں بحالی آئے گی لیکن وہ مہنگائی میں اضافے کے حوالے سے محتاط ہیں (چارٹ ج)۔

3- گذشتہ تین لہروں کے موازنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطرے کا تاثر ملکی مہنگائی اور ملکی نمو کی سست روی کے بارے میں کسی قدر بہتر ہوا ہے (چارٹ ح)۔


ڈھانچوں کے ایگزیکٹوز، مالی صحافی، تعلیمی اداروں کے ارکان، ایس ای سی پی کے حکام اور تھک ٹینکس شامل تھے۔

7 جواب دہندگان میں کرسٹل بینکوں، بی۔ بی۔ سی۔ پی۔ ایم، مہارلہ کمپنیوں، ایم ایف بی، ڈی ایف آئیز، مالی منڈی کے اہم


چارٹ ب: نظامیاتی خطرے کے ذرائع کا تصور 6 ماہ




چارٹ الف: نظامیاتی خطرے کے ذرائع کا تصور موجودہ



چارٹ ذ: مالی استحکام پر اعتماد



چارٹ ج: شناخت شدہ 10 سرفہرست خطرات




چارٹ ح: اسٹیٹ بینک کے نظامیاتی خطرے کے نتائج کا تقابل (6، 5، اور 7 ویں مہرے)

Risk Category	Risk Sub-category	5th Wave (Jan-20)			6th Wave (Aug-20)			7th Wave (Jan-21)		
		Present (Average)	Present (Average)	Present (Average)	Present (Average)	Present (Average)	Present (Average)	Present (Average)	Present (Average)	
Global Risks	Slowdown in global growth	2.65	2.27	2.42	2.62	2.73	2.63	2.62	2.73	2.63
	Sovereign default risk	2.99	2.96	3.03	2.85	2.98	2.89	2.85	2.98	2.89
	Lack of funding from abroad	2.43	2.38	2.61	2.41	2.39	2.54	2.41	2.39	2.54
	Volatility in commodity prices	2.07	2.09	2.25	2.07	2.09	2.25	2.07	2.09	2.25
	Slowdown in domestic growth	2.10	2.16	2.26	2.10	2.16	2.26	2.10	2.16	2.26
Macroeconomic Risks	Increase in domestic inflation	1.79	2.26	2.19	1.79	2.26	2.19	1.79	2.26	2.19
	Widening fiscal deficit	2.24	2.32	2.40	2.24	2.32	2.40	2.24	2.32	2.40
	Deterioration of BoP	2.43	2.47	2.58	2.43	2.47	2.58	2.43	2.47	2.58
	Sovereign rating downgrade	2.68	2.81	2.77	2.68	2.81	2.77	2.68	2.81	2.77
	Slowdown in corporate sector growth	2.21	2.43	2.53	2.21	2.43	2.53	2.21	2.43	2.53
	Slowdown in infrastructure development	2.56	2.91	2.88	2.56	2.91	2.88	2.56	2.91	2.88
	Deterioration in household savings	2.26	2.26	2.12	2.26	2.26	2.12	2.26	2.26	2.12
	Volatility in real estate prices	2.96	2.86	2.97	2.96	2.86	2.97	2.96	2.86	2.97
	Energy crisis	2.50	2.49	2.39	2.50	2.49	2.39	2.50	2.49	2.39
	Political uncertainty	2.29	2.74	2.43	2.29	2.74	2.43	2.29	2.74	2.43
Financial Market Risks	Foreign exchange rate risk	2.19	2.18	2.39	2.19	2.18	2.39	2.19	2.18	2.39
	Equity price risk	2.67	2.69	2.79	2.67	2.69	2.79	2.67	2.69	2.79
	Interest rate risk	2.32	2.72	2.62	2.32	2.72	2.62	2.32	2.72	2.62
	Liquidity risk	2.66	2.72	2.79	2.66	2.72	2.79	2.66	2.72	2.79
	Regulatory risk	2.62	2.73	2.63	2.62	2.73	2.63	2.62	2.73	2.63
Institutional Risks	Legal risk	2.85	2.98	2.89	2.85	2.98	2.89	2.85	2.98	2.89
	Asset quality deterioration	2.41	2.39	2.54	2.41	2.39	2.54	2.41	2.39	2.54
	Shortfall in capital requirement	2.57	2.63	2.72	2.57	2.63	2.72	2.57	2.63	2.72
	Access to funding (deposit mobilization & borrowings)	2.72	2.77	2.92	2.72	2.77	2.92	2.72	2.77	2.92
	Excessive private sector credit	3.03	2.80	2.98	3.03	2.80	2.98	3.03	2.80	2.98
	Concentration risk in PSC	2.97	2.78	2.94	2.97	2.78	2.94	2.97	2.78	2.94
	Concentration risk in mutual fund	3.28	3.33	3.11	3.28	3.33	3.11	3.28	3.33	3.11
	Operational risk	2.78	2.65	2.77	2.78	2.65	2.77	2.78	2.65	2.77
	Cyber security risk	2.28	2.23	2.18	2.28	2.23	2.18	2.28	2.23	2.18
	Disruption in financial market	2.78	2.66	2.84	2.78	2.66	2.84	2.78	2.66	2.84
General Risks	Terrorism	2.67	2.74	2.58	2.67	2.74	2.58	2.67	2.74	2.58
	Geopolitical risk for Pakistan	2.25	2.48	2.44	2.25	2.48	2.44	2.25	2.48	2.44
	Natural disasters/ Increasing threat of climate change	2.68	2.59	2.88	2.68	2.59	2.88	2.68	2.59	2.88
	Social unrest	2.82	2.75	2.71	2.82	2.75	2.71	2.82	2.75	2.71





چارٹ 1: کووڈ 19 کے دھچکے کے مضمرات ناکل کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے اقدامات پر جواب گزاروں کا اعتماد



چارٹ 2: معیشت کے لیے اسٹیٹ بینک کے اقدامات پر جواب گزاروں کی رائے

چارٹ 3: مالی صنعت کے اہم شعبوں پر کووڈ 19 کے عملہ اثرات کے متعلق جواب گزاروں کی رائے



چارٹ 3: کووڈ 19 کی وبا کے پاکستان کے مالی نظام کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے امکانات۔ اس آرائس کی چھٹی لہر سے قائل

i) At Present

ii) Next Six Months

iii) Within 1-2 years

